



سوال

(241) سحری کرتے کرتے اگر اذان شروع ہو جائے

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ماہ رمضان میں بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا اپنی سحری کو مکمل کر لیا جائے یا اذان سنتے ہی کھانا بند کر دیا جائے، وضاحت کریں۔

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ : ”اور کھاؤ، پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صحیح کی سفید دھاری، سیاہ دھاری سے نیایاں ہو جائے پھر پہنچنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ [1]

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سحری کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو کھانا پینا بند کر دے، ہاں اگر موذن طلوع فجر سے پہلے اذان دے رہا ہو تو کھانے پینے سے رُک جانا ضروری نہیں ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھانے کے دوران اذان شروع ہو جائے اور روزہ رکھنے والے کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے جیسا کہ حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی جب اذان فجر سے اور برلن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھنے سے پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے۔“ [2]

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت تیگ ہو رہا ہو اور اذان فجر پہنچنے وقت پر شروع ہو جائے تو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے والا پانی پی لے اور دوچار لئے لے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اور اس کے ہاتھ میں پانی پینے کا برلن ہوتا کہ وہ اسے نوش کرے، اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ [3] ایسی حالت میں تھوڑا بہت کھانا اور پانی پینے کی اجازت ہے مگر چاہئے کی طرح مشروب کی چسکیاں لینا درست نہیں ہے اور نہ ہی ایسی حالت میں سکریٹ کے کش بھرنا جائز ہے۔ (والله اعلم)

[1] البقرة: ۱۸۷۔

[2] ابو داؤد، الصیام: ۲۳۵۰۔



جعفریان اسلامی
محدث فلسفی

[3] مسند امام احمد، ص ٣٢٨، ج ٣.

هذا عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4۔ صفحہ نمبر: 226

محمد فتویٰ